



پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا میچ پیر کو ہوگا

لاہور، 27 ستمبر 2019ء:

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے ایک روزہ میچ کے شیڈول میں نظر ثانی کردی گئی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ اب 30 ستمبر بروز پیر کو کھیلا جائے گا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ اور سری لنکا کرکٹ نے باہمی مشاورت کے بعد گراؤنڈ اسٹاف کو آئندہ میچ کے لیے سازگار آؤٹ فیلڈ تیار کرنے کے لیے وقت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعہ سمیت رواں ہفتے ہونے والی بارشوں کے باعث اسٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ گیلی ہے جس کو میچ کے لیے سازگار بنانے کے لیے گراؤنڈ اسٹاف کو کم از کم 2 روز درکار ہیں۔ پیر کو ری شیڈول کیے گئے میچ کی ٹکٹیں آن لائن اور ٹی سی ایس کے مخصوص کاؤنٹرز پر دستیاب ہوں گی۔

ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی ذاکر خان کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے غیر متوقع بارشوں نے ہمیں سیریز کے شیڈول میں نظر ثانی پر مجبور کیا ہے۔ انہوں نے سری لنکا کرکٹ اور براڈ کاسٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سیریز کے شیڈول میں تبدیلی پر ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔

ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی نے مداحوں کو اتوار کے لیے خریدی گئی ٹکٹوں کو پیر کے میچ میں استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ ماسٹرز نے ہمیں پیر کے روز میچ کے ٹکٹوں کی آن لائن اور مخصوص ٹی سی ایس کاؤنٹرز پر دستیابی کی یقین دہانی کرا دی ہے۔

ذاکر خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پالیسی کے مطابق جمعہ کے روز شیڈول میچ کے لیے خریدی گئی ٹکٹوں کو ری فنڈ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جو مداح اتوار کے لیے خریدے گئے میچ کو پیر کے روز دیکھنا نہیں چاہتے انہیں بھی ری فنڈ پالیسی کے تحت پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4